

# خبر نامہ

اوارہ

☆ قاموس القرآن الکریم، موسسه الکویت للتقدم العلمی، الکویت۔

عربی زبان میں اپنی نویعت کی پہلی کتاب ہے جس میں تحریکی، تاریخی، اثری جغہ افیائی، باتاتی معلومات تصویریوں اور نقشوں کی مدد سے ترتیب دی گئی ہے۔ اس کی تیاری ڈاکٹر عبداللہ یوسف الغیتم، ڈاکٹر خالد المذکور، ڈاکٹر عبد التبارابون غدہ اور مختلف علوم و فنون کے ماہر اساتذہ کی گمراہی میں انجام پیائی ہے۔ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔

☆ المد خل اور مجسم النبات لقاموس القرآن الکریم کا انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ المد خل میں سات بنیادی باب ہیں اور مجسم میں قرآن شریف میں مذکور باتات کا بیان ہے۔

☆ مد خل القرآن الکریم سے متعلق درج ذیل تین کتابیں عربی زبان میں شائع ہو چکی ہیں۔

۱) ڈاکٹر محمد عبدالهادی ابو ریدۃ کی مضمون القرآن الکریم فی تضیییالایمان والشہود والأخلاق

والکون۔

۲) ڈاکٹر عجیل جاسم النشی کی طرق استنباط الاحکام من القرآن الکریم۔

۳) ڈاکٹر احمد مختار عمر کی لغۃ القرآن دراسۃ ثویقیۃ فقیۃ۔

(ماہنامہ الفرقان، صفاۃ، الکویت، شمارہ ۷۷، اگست ۱۹۹۷ء ص ۱۲)

## اندو نیشی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ

قاهرہ۔ جامعہ الازہر کے ریکٹر ڈاکٹر محمد سید طعطاوی نے کہا ہے کہ الازہر نے قرآن کریم کے اندو نیشی زبان میں ترجمہ کی منظوری دے دی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ یہ ترجمہ اسلامی تعلیمات کے ماہر ڈاکٹر عمر باکری نے کیا ہے اور ستر ہویں صدی کے بعد سے اندو نیشی زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ میں جدید ترین ہے۔ انھوں نے رابطہ عالم اسلامی کی طرف